





حی



لیں پی پانی




ہے خشک منہ



ہے تکلیف مینگاہے



کھانسی



درد سر



ہے خراب طبیعت



روم باتھ




کریں صاف منہ




اکھڑنا نس سا



تکلیف میں لینے نس سا




ہونا گرم کا جسم




ہونا ٹھنڈا کا جسم



کرنا محسوس چینی بے




جلائیں لائٹ
لائٹ بجھائیں




لگائیں بام پر نٹوں بو



دوایاں




الرجح




کھینچے سے منہ










کا نالی کی بو
ڈان میں پھپڑوں



آکسیجن / بو



ینکر ٹھیک کو بستر



کرنا محسوس تھکن

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




نہیں



نہیں معلوم



حی




Covid-19



سوال



ہیں ٹھیک آپ



ہوں کہاں میں



کریں رابطہ سے والوں گھر



شکریہ




کریں یہاں اندرج کا ناموں مہربانی برآے


والے گھر



دوست



جانور گریلو




کریں فون



لکھیں / لکھیں خط




ہوں کرتا پیار




ہوں کرتا یاد




کریں نیں فکر



حافظ خدا



کریں دعا



ہے فخر





ہے منع داخلہ کا ملاقاتیوں




گھر




کرتا محسوس خوف / در چینی بے / کیفیت اضطرابی



ہونا اداس



رہنا پرسکون



ہے ٹھیک



نہیں

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

30

40

50

60

70

80

90

100



نہیں معلوم